

## 10490 - بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے اللہ سے ڈرو تو وہ جواب دیتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو

### سوال

مجھے اس سے بہت تنگی محسوس ہوتی ہے کہ جب میں کسی کونصیحت کرتا ہوں یا کسی برائی کی بنا پر انہیں وعظ و نصیحت کرتا ہوں تو ان میں کوئی یہ کہہ دیتا کہ اس معاملہ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں آپ اپنا کام کریں اور میرے معاملات میں دخل نہ دیں ، تو اس قول کا کیا حکم ہے ؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

ان کا یہ کہنا صحیح نہیں بلکہ باطل اور حق کا رد ہے اور اللہ تعالیٰ اس جیسی بات اور رد سے ناراض ہوتا ہے ، اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث میں پائی جاتی ہے :

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

{ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کلام یہ ہے کہ بندہ یہ کہے :

( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك )

اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پا ک ہے اور تیرا نام بابرکت اور تیری شان بلند ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں {

اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مبعوض ترین کلام یہ ہے کہ بندہ کسی شخص کو کہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ، اور وہ جواب میں اسے کہے کہ اپنا کام کرو اور اپنا آپ سنبھالو

دیکھیں السلسلة الصحيحة للالبانی رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث نمبر ( 2598 )

اس لیے آپ دعوتی کام جاری رکھیں اور اس راستے میں آنے والی اذیتوں اور تکالیف پر صبر کریں جیسا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا :

اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرو ، اور نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ، اور تجھے جو بھی تکلیف آئے اس پر صبر کرتے رہو بلاشبہ یہ پختہ عزم میں سے ہے لقمان ( 17 ) -

والله اعلم .